

Conjunctional Nouns _ اسمائے موصولہ

Also called

Connecting nouns or Relative pronouns

Lesson # 25 part 2

- part 1, lesson 25
- Examples from Quran

وہ جو
جس نے
اُس کا جو
اُن کا جو
جو کسی

اسم موصول :-

واحد	تثنیہ رفعی	تثنیہ نصبی جری	جمع
مذکر	الَّذِي	الَّذِينَ	الَّذِينَ
مؤنث	الَّتِي	الَّتَيْنِ	الَّتِي / الَّتِي

ط

إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الْآئِي وَلَدَتْهُمْ ط				
إِنَّ	أُمَّهَاتِهِمْ	إِلَّا	الْآئِي	وَلَدَتْهُمْ
نہیں	مائیں ان کی	مگر	وہ جنہوں نے	جنا ہے ان کو

VERB

وَلَدَتْهُمْ ؕ

gave them birth

waladnahum

PRONOUN

الَّذِي

those who

allā

PARTICLE

إِلَّا

except

illā

NOUN

أُمَّهَاتِهِمْ

(are) their mothers

ummahātuhum

PARTICLE

إِنَّ

Not

in

ع (۱۳) وَ الَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ

وَ	الَّتِي	يَأْتِينَ	الْفَاحِشَةَ
اور	وہ عورتیں کہ	آتی ہیں	بے حیائی کو
مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری			

NOUN

الْفَاحِشَةَ

[the] immorality

l-fāḥishata

VERB

يَأْتِينَ

commit

yatīna

PRONOUN

وَالَّتِي

And those who

wa-allāti

١٥) وَ الَّذِيْنَ يَأْتِيْنَهَا

يَأْتِيْنَهَا	الَّذِيْنَ	وَ
آویں اس بے حیائی کو	جو دو مرد	اور
اور جو دو مرد تم میں سے		

VERB

فَأَذُوهُمَا

then punish both of them

faādhūhumā

PARTICLE

مِنْكُمْ

among you

minkum

VERB

يَأْتِيْنَهَا

commit it


yatiyānihā

PRONOUN

وَ الَّذِيْنَ

And the two who

wa-alladhāni



- **General Pronouns (Man/Ma):** مَنْ (man) is used for people ("who/he who"), and مَا (mā) is used for things ("what/that which").
- **Broken Plurals/Inanimate Plurals:** Plural nouns that are not human (inanimate objects) are treated as singular feminine. Therefore, they take الَّتِي (al-latī) instead of plural pronouns.

part 2, lesson 25
Examples from Quran

اللہ ہی رزق دیتا ہے	جسے چاہتا ہے
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (البقرة: ۲۱۲)	

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الرعد: ۱۵)	
اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں	جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
Allah knows <i>what</i> you do.
اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَعْبُدُهُ.
Allah knows <i>who</i> worships him.

سَبْعَ	سَمَوَاتٍ ط	وَهُوَ	بِجُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمٌ ع (29)	وَإِذْ
سات	آسمان	اور وہ	ہر	چیز کا	خوب علم رکھنے والا ہے	اور جب
قَالَ	رَبُّكَ	لِلْمَلَائِكَةِ	إِنِّي	جَاعِلٌ	فِي الْأَرْضِ	خَلِيفَةً ط
فرمایا	آپ کے رب نے	فرشتوں سے	بے شک میں	بنانے والا ہوں	زمین میں	ایک خلیفہ
قَالُوا	أَتَجْعَلُ	فِيهَا	مَنْ	يُفْسِدُ	فِيهَا	وَيَسْفِكُ
انہوں نے کہا	کیا تو بنائے گا	اس میں	اس کو جو	فساد کرے گا	اس میں	اور وہ بہائے گا
	الذَّمَاءَ ج					خون

البَقْرَةَ 2

9

الْمَاءِ 1

وَنَحْنُ	نُسَبِّحُ	بِحَمْدِكَ	وَنُقَدِّسُ	لَكَ ط	قَالَ	إِنِّي
اور ہم	ہم تسبیح کرتے ہیں	ساتھ تیری تعریف کے	اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں	تیری	فرمایا	بے شک میں
أَعْلَمُ	مَا لَا	تَعْلَمُونَ (30)	وَعَلَّمَ	آدَمَ	الْأَسْمَاءَ	كُلَّهَا
میں جانتا ہوں	جو	تم جانتے	اور اس نے سکھا دیے	آدم کو	نام	سب ان کے

سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

YOUR	(HE)	-WHEN	A N D	(IS) ALWAYS	(OF)	- WITH	HE	A N D	(OF) -SKIES	SEVEN
-RABB -SUSTAINER	SAID	-RECALL		ALL KNOWING	THING(S)	-ALL -EVERY			-HEAVENS -HEIGHTS	

IT INTO SEVEN HEAVENS. HE HAS PERFECT KNOWLEDGE OF EVERYTHING. ★

NOTE THAT OCCASION, WHEN YOUR RABB SAID

لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ

YOU	DO?	THEY	A -KHALIFAH -VICEGERENT -DEPUTY -SUCCESSOR	THE	IN	(AM) ONE WHO	IN- DEED	-TO -FOR
-MAKE -APPOINT		SAID	EARTH			-MAKES -APPOINTS	I	THE ANGELS

TO THE ANGELS: I AM GOING TO PLACE A VICEGERENT ON EARTH.

THE ANGELS SAID: "WILL YOU PLACE

فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

WE	WE	AND	THE	(HE)	AND	IN	(HE) DOES (WILL DO)	WHO	IN
-DO TASBĪH -GLORIFY			BLOOD	SHEDS		IT (HER)	-MISCHIEF -DISRUPTION	IT (HER)	

THERE ONE WHO WILL MAKE MISCHIEF AND SHED BLOOD WHILE WE SING

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

YOU (ALL)	(DO)	W H A T	I	IN DEED	(HE)	-TO -FOR	WE	AND	WITH
KNOW	NOT		KNOW	I	SAID	YOU	SANCTIFY	YOUR PRAISE	

YOUR PRAISES AND GLORIFY YOUR NAME?

"ALLAH SAID: "I KNOW WHAT YOU KNOW NOT." ★

Additional information

1. Basic Interrogative Usage

- Who is this? — مَنْ هَذَا؟ (Man hādhā?)
- Who is he? — مَنْ هُوَ؟ (Man huwa?)
- Who are you? — مَنْ أَنْتَ؟ (Man anta?)
- Who told you this? — مَنْ قَالَ لَكَ هَذَا؟ (Man qaala laka haadhaa?)

Common Examples:

- مَا هَذَا؟ (Maa haadhaa?): What is this?
- مَا اسْمُكَ؟ (Maa ismuka?): What is your name?
- مَا فَعَلْتَ؟ (Maa fa'alta?): What did you do? 🇸🇪 Le